

01020069 PUGNAX BLUE

PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE A

Description: Five fingers protective gloves for welders made from cowsplit leather with full lining. Size 10. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of Regulation (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 and EN 12477+A1:2005. PPE personal protective equipment category II.

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions.

Features and marking:

				
read the manufacturer instruction	manufacturer identification	EU conformity marking	mechanical hazards icon	heat hazards icon

4244x – protection levels **EN388:2016**

Abrasion resistance:	4 (1-4)
Cut resistance:	2 (1-5)
Tear resistance:	4 (1-4)
Puncture resistance:	4 (1-4)

TDM cut resistance: x – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/material

41334x – protection levels EN407:04	
Burning behavior	class 4 (1-4)
Contact heat	class 1 (1-4)
Convective heat	class 3 (1-4)
Radiant heat	class 3 (1-4)
Small splashes of molten metal	class 4 (1-4)
Large quantities of molten metal	class X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – standard number, year of issue and type of welders gloves
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EU type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTESE, LLOJI A

Përshkrim: Dorezat janë të prodhuara për llojin cilësor të lënuar dhe të ashpër, me përshkrim të plotë. Ochron në madhësi të numër 10. Çdo përis doreza është e pajisur me logon e prodhuesit, numrin e modelit, vitin e prodhimit dhe piktoگرامin djalues të prodhuesit në përputhje me normën evropiane (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 dhe EN12477+A1:2005. PMP Pajisjeve mbrojtëse personale Kategoria II.

Përdorimi: Dorezat janë të destinuara për mbrojtjen e dorës ndaj rreziqeve të dëmtimeve mekanike dhe për përdorim gjatë procesit të zakonshëm saldimit në një mjedës të thatë.

Karakteristikat dhe kodifikimi:

				
Piktogrami i informacionit	identifikimi i prodhuesit	simboli i përputhshmëritë	piktogrami i mekanikë	piktogrami i rreziqeve të nxehtësisë dhe zjarrit

4244x – Shkallë të mbrojtjes **EN388:2016**
Resistencia ndaj abrazionit: 4 (1-4)
Resistencia ndaj prerjes: 2 (1-5)
Resistencia ndaj çarjeve: 4 (1-4)
Resistencia ndaj shpimit: 4 (1-4)
Resistencia e prerjes TDM: x - nuk është testuar, Metoda e testimit duket të mos jetë e përshatshme për dizajnin / materialin e fiksesit
Shkalla e aftësisë së kapjes 1

41334x - Shkallë e Mbrojtjes EN407: 2004
Resistencia ndaj zjarrit shkalla 4 (1-4)
Resistencia ndaj nxehtësisë së transmetuar me kontakt shkalla 1 (1-4)
Resistencia ndaj nxehtësisë së transmetuar me konveksion shkalla 3 (1-4)
Resistencia ndaj shpërthyesve të vrapit të metali shkalla 4 (1-4)
Resistencia ndaj shpërthyesve të mëdha të metali shkalla X (1-4)

EN12477+A1:05 LLOJI A - Numri i standartit, viti i prodhimit dhe lloji i dorezave për saldatorë

Udhëzime për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezave mbrojtëse: Dorezat ruajini nga ekspozimi i panevojshëm ndaj nxehtësisë së reaktuar. Dorezat nuk duhet të ekspozohen ndaj tërheqjeve organike dhe avujve të tyre, ndaj lubrifikantëve, yndyrnave, vajrave minerale dhe ujit. Për përdorim, dorezat përdoren në largësi për të larguar papastëritë e mëdha dhe pastaj vendosini të shtrira në një ambient me temperaturën e dhomës. Dorezat nuk mund të lahen dhe as të pastrohen kimikisht.
Kujdes: Dorezat nuk duhet të përdoren nëse ekziston rreziku i kapjes së tyre nga pjesët e lëvizshme të makinave. Karakteristikat mbrojtëse të dorezave i rrehojnë vetëm pjesës së përmbledhës së saj. Përdorni gjithmonë dorezat me madhësi të përshatshme dhe para çdo përdorimi kontrolloni gjendjen e tyre. Asnjëherë mos përdorni doreza të konsumuara, të ngjyruara ose të dëmtuara në ndonjë formë tjetër. Tek njëzëri me lëkurë të nxehtësie nuk përjashtohet mundësia e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Aktualisht nuk ekziston metoda të standardizuara të provave për përcaktimin e depërimit të rezatimit UV në materialin e dorezave, megjithatë metodat e përdorura aktualisht për ndodrimin e doreza tërheqëse për saldatorë, në përdorimin e parandalojnë depërimin e rezeve UV. Nëse dorezat janë të destinuara për tu përdorur gjatë saldimit me hark elektrik, ato nuk ofrojnë mbrojtje ndaj goditjes elektrike të shkaktuar nga pajisjet e dëmtuara apo gjatë punës nën tension elektrik. Nëse dorezat janë të lagura, të ndotura, ose të përshkuraballa nga djersa, rezistenca elektrike e tyre është e reduktuar dhe rreziku i goditjes elektrike mund të rritet.

Transporti dhe magazinimi: Dorezat duhet të transportohen në të gese plastike. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve direkte të Diellit. Në qoftë se rrespekton kushtet e përshatshme të magazinimit, afati maksimal i qëndrimit në magazinë është 5 vjet që nga data e prodhimit.
Certifikata e tipit EU është lëshuar nga personi i notifikuar nr. 2369 VIPO a.s. (sh.a.), Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika e Sllovakisë. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.
Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

AZ QORUYUCA QYNAQÇI ÖLÇƏNKƏRİ, TYP A

Təsvir: Bəş barmaq və tam astarlı qoruyucu qənaqçılar, hərəcti üzərində (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 və EN12477+A1:2005 Avropa Standartına uyğun təkliq markası, məhsuldukm, istehsal tarixi və qoruyucu piktogramları işlərəlməklərdir. Şəxsi qoruyucu avadanlığı, kateqoriyası II.
İstifadəsi: Bu əlcəklər quru mühitdə qaynaq işlərində mexanik risklərə qarşı qoruyudurlar.
Texniki Xüsusiyyətləri və İşlərəli:

				
İstifadə Bələdçisi Oxunmalı	İstehsalçı İdsarı	Uyğunluq İdsarı	Mexanik Risk Piktogramı	Termal Risk Piktogramı

4244x – Qoruma Səviyyəsi **EN388:2016**
Çox ugramasi: 4 (1-4)
Kəsilməyə Müqavimət: 2 (1-5)
Çirilmə Müqaviməti: 4 (1-4)
Dəşilmə Müqaviməti: 4 (1-4)
TDM kəsilmiş müqavimət: x - Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasınə nazərə alınaraq sınaq üsulü münasib hesab edilmişdir.
Xüsusiyyətləri:

EN 420, EN 407,






EN 388, EN 12477

GB PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE A

Description: Five fingers protective gloves for welders made from cowsplit leather with full lining. Size 10. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of Regulation (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 and EN 12477+A1:2005. PPE personal protective equipment category II.

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions.

Features and marking:

				
read the manufacturer instruction	manufacturer identification	EU conformity marking	mechanical hazards icon	heat hazards icon

4244x – protection levels **EN388:2016**

Abrasion resistance:	4 (1-4)
Cut resistance:	2 (1-5)
Tear resistance:	4 (1-4)
Puncture resistance:	4 (1-4)

TDM cut resistance: x – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/material

41334x – protection levels EN407:04	
Burning behavior	class 4 (1-4)
Contact heat	class 1 (1-4)
Convective heat	class 3 (1-4)
Radiant heat	class 3 (1-4)
Small splashes of molten metal	class 4 (1-4)
Large quantities of molten metal	class X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – standard number, year of issue and type of welders gloves
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EU type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.






Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTESE, LLOJI A

Përshkrim: Dorezat janë të prodhuara për llojin cilësor të lënuar dhe të ashpër, me përshkrim të plotë. Ochron në madhësi të numër 10. Çdo përis doreza është e pajisur me logon e prodhuesit, numrin e modelit, vitin e prodhimit dhe piktoگرامin djalues të prodhuesit në përputhje me normën evropiane (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 dhe EN12477+A1:2005. PMP Pajisjeve mbrojtëse personale Kategoria II.

Përdorimi: Dorezat janë të destinuara për mbrojtjen e dorës ndaj rreziqeve të dëmtimeve mekanike dhe për përdorim gjatë procesit të zakonshëm saldimit në një mjedës të thatë.

Karakteristikat dhe kodifikimi:

				
Piktogrami i informacionit	identifikimi i prodhuesit	simboli i përputhshmëritë	piktogrami i mekanikë	piktogrami i rreziqeve të nxehtësisë dhe zjarrit

4244x – Shkallë të mbrojtjes **EN388:2016**
Resistencia ndaj abrazionit: 4 (1-4)
Resistencia ndaj prerjes: 2 (1-5)
Resistencia ndaj çarjeve: 4 (1-4)
Resistencia ndaj shpimit: 4 (1-4)
Resistencia e prerjes TDM: x - nuk është testuar, Metoda e testimit duket të mos jetë e përshatshme për dizajnin / materialin e fiksesit
Shkalla e aftësisë së kapjes 1

41334x - Shkallë e Mbrojtjes EN407: 2004
Resistencia ndaj zjarrit shkalla 4 (1-4)
Resistencia ndaj nxehtësisë së transmetuar me kontakt shkalla 1 (1-4)
Resistencia ndaj nxehtësisë së transmetuar me konveksion shkalla 3 (1-4)
Resistencia ndaj shpërthyesve të vrapit të metali shkalla 4 (1-4)
Resistencia ndaj shpërthyesve të mëdha të metali shkalla X (1-4)






EN12477+A1:05 LLOJI A - Numri i standartit, viti i prodhimit dhe lloji i dorezave për saldatorë

Udhëzime për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezave mbrojtëse: Dorezat ruajini nga ekspozimi i panevojshëm ndaj nxehtësisë së reaktuar. Dorezat nuk duhet të ekspozohen ndaj tërheqjeve organike dhe avujve të tyre, ndaj lubrifikantëve, yndyrnave, vajrave minerale dhe ujit. Për përdorim, dorezat përdoren në largësi për të larguar papastëritë e mëdha dhe pastaj vendosini të shtrira në një ambient me temperaturën e dhomës. Dorezat nuk mund të lahen dhe as të pastrohen kimikisht.
Kujdes: Dorezat nuk duhet të përdoren nëse ekziston rreziku i kapjes së tyre nga pjesët e lëvizshme të makinave. Karakteristikat mbrojtëse të dorezave i rrehojnë vetëm pjesës së përmbledhës së saj. Përdorni gjithmonë dorezat me madhësi të përshatshme dhe para çdo përdorimi kontrolloni gjendjen e tyre. Asnjëherë mos përdorni doreza të konsumuara, të ngjyruara ose të dëmtuara në ndonjë formë tjetër. Tek njëzëri me lëkurë të nxehtësie nuk përjashtohet mundësia e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Aktualisht nuk ekziston metoda të standardizuara të provave për përcaktimin e depërimit të rezatimit UV në materialin e dorezave, megjithatë metodat e përdorura aktualisht për ndodrimin e doreza tërheqëse për saldatorë, në përdorimin e parandalojnë depërimin e rezeve UV. Nëse dorezat janë të destinuara për tu përdorur gjatë saldimit me hark elektrik, ato nuk ofrojnë mbrojtje ndaj goditjes elektrike të shkaktuar nga pajisjet e dëmtuara apo gjatë punës nën tension elektrik. Nëse dorezat janë të lagura, të ndotura, ose të përshkuraballa nga djersa, rezistenca elektrike e tyre është e reduktuar dhe rreziku i goditjes elektrike mund të rritet.

Transporti dhe magazinimi: Dorezat duhet të transportohen në të gese plastike. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve direkte të Diellit. Në qoftë se rrespekton kushtet e përshatshme të magazinimit, afati maksimal i qëndrimit në magazinë është 5 vjet që nga data e prodhimit.
Certifikata e tipit EU është lëshuar nga personi i notifikuar nr. 2369 VIPO a.s. (sh.a.), Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika e Sllovakisë. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.
Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

AZ QORUYUCA QYNAQÇI ÖLÇƏNKƏRİ, TYP A

Təsvir: Bəş barmaq və tam astarlı qoruyucu qənaqçılar, hərəcti üzərində (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 və EN12477+A1:2005 Avropa Standartına uyğun təkliq markası, məhsuldukm, istehsal tarixi və qoruyucu piktogramları işlərəlməklərdir. Şəxsi qoruyucu avadanlığı, kateqoriyası II.
İstifadəsi: Bu əlcəklər quru mühitdə qaynaq işlərində mexanik risklərə qarşı qoruyudurlar.
Texniki Xüsusiyyətləri və İşlərəli:

				
İstifadə Bələdçisi Oxunmalı	İstehsalçı İdsarı	Uyğunluq İdsarı	Mexanik Risk Piktogramı	Termal Risk Piktogramı

4244x – Qoruma Səviyyəsi **EN388:2016**
Çox ugramasi: 4 (1-4)
Kəsilməyə Müqavimət: 2 (1-5)
Çirilmə Müqaviməti: 4 (1-4)
Dəşilmə Müqaviməti: 4 (1-4)
TDM kəsilmiş müqavimət: x - Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasınə nazərə alınaraq sınaq üsulü münasib hesab edilmişdir.
Xüsusiyyətləri:

EN 420, EN 407,






EN 388, EN 12477

DE SCHWEISSER-SCHUTZHANDSCHUH, TYP A

Beschreibung: Fünftfinger-Sicherheitshandschuh aus hochwertigem, weichem Rindspaltleder. Mit Innenfutter. erhältlich in Grösse 10. Die einzelnen Paare sind gekennzeichnet mit dem Logo des Zulieferers, einer Typkennzeichnung, dem Herstellungsjahr und dem Arbeitsschutz-Piktogramm, dass der Handschuh konform ist mit (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 und EN 12477+A1:2005. PSA Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II.

Verwendung: Dieser Handschuh ist vorgesehen zum Schutz vor mechanischen Gefahren und für normale Schweisserarbeiten in trockener Umgebung.

Eigenschaften und Kennzeichnung:

				
Piktogramm Information	Identifikation des Herstellers	Konformitätszeichen	Piktogramm mechanischer Risiken	Piktogramm Hitze und Feuer Risiken

4244x – Schutzstufe **EN388:2016**
Abriebfestigkeit: 4 (1-4)
Schneiffestigkeit: 2 (1-5)
Reißfestigkeit: 4 (1-4)
Durchstichfestigkeit: 4 (1-4)

TDM Schneifwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

41334x – Schutzstufe Brennverhalten EN407:04

Klasse 4 (1-4)
Klasse 1 (1-4)
Klasse 3 (1-4)
Klasse 3 (1-4)
Klasse 4 (1-4)
Klasse X (1-4)

4244x – Schutzstufe **EN388:2016**
Abriebfestigkeit: 4 (1-4)
Schneiffestigkeit: 2 (1-5)
Reißfestigkeit: 4 (1-4)
Durchstichfestigkeit: 4 (1-4)

TDM Schneifwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

41334x – Schutzstufe Brennverhalten EN407:04

Klasse 4 (1-4)
Klasse 1 (1-4)
Klasse 3 (1-4)
Klasse 3 (1-4)
Klasse 4 (1-4)
Klasse X (1-4)

4244x – Schutzstufe **EN388:2016**

Abriebfestigkeit: 4 (1-4)
Schneiffestigkeit: 2 (1-5)
Reißfestigkeit: 4 (1-4)
Durchstichfestigkeit: 4 (1-4)

TDM Schneifwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

41334x – Schutzstufe Brennverhalten EN407:04

Klasse 4 (1-4)	4 (1-4)
Klasse 1 (1-4)	1 (1-4)
Klasse 3 (1-4)	3 (1-4)
Klasse 3 (1-4)	3 (1-4)
Klasse 4 (1-4)	4 (1-4)
Klasse X (1-4)	X (1-4)

41334x – Schutzstufe **EN407:04**

4244x – Schutzstufe **EN388:2016**

Abriebfestigkeit: 4 (1-4)
Schneiffestigkeit: 2 (1-5)
Reißfestigkeit: 4 (1-4)
Durchstichfestigkeit: 4 (1-4)

TDM Schneifwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

41334x – Schutzstufe **EN407:04**






4244x – beskytelsestadiet **EN388:2016**
Slidstyrke (rotation): 4 (1-4)
Gennemskærings/indeks: 2 (1-5)
Tiruvring (Newton): 4 (1-4)
Stikmodstand (Newton): 4 (1-4)
TDM cut modstand: x - blev ikke aprovet, metoden anses ikke at være egnet med hensyn til handskerens konstruktion
Fingerfølning 1
41334x – beskyttelsestadiet **EN407:04**
Antændelighed class 4 (1-4)
Antændelighedskvame class 1 (1-4)
Isoleringsniveau class 3 (1-4)
Strålevarme class 3 (1-4)
Metalstank, små class 4 (1-4)
Metalstank, store class X (1-4)
EN12477+A1:05 TYP A - standard number, år og type af svejsehandske
Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handsken mod strålevarme. Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler, dampe, smøremidler, fedt, mineraler eller væn. Fjern groft snavs med en børste og lad handsker tørre frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller renses.
Advarsel: Handskerne må ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af bevægelige maskin- eller udstyrsdele. Beskyttelseshandskerne er kun godkendte på håndfæddede af handske. Brug altid korrekt handskes størrelse og undersøg handskens tilstand for hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller på anden måde beskadigede handsker. Brug af handsker kan forårsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsom hud. I så fald skal handsken ikke længere benyttes. På nærværende tidspunkt er der ingen standardiserede testmetoder til påvisning af UV indtrængning gennem handskens anvendte materialer. Ikke desto mindre, betyder det at svejsehandsker normalt ikke tillader UV penetration. Ved lysbuevejning yder handsken ikke en svejser beskyttelse i tilfælde af en direkte kontakt med alle lysspændings dele. I henhold til standard behovet handskerne ikke yde beskyttelse mod elektriske stød forårsaget af defekte komponenter eller arbejde under elektrisk spænding. Hvis handskerne er våde, snavsede eller gennemblødt af sved, bliver den elektriske modstand reduceret og risikoen kan stige
Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballage. Opbevares bedst mørkt, tørt, køligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.
**EU Erklæring er udstedt af No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.
Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, T**

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS A

Apsaūmas: Pirštuotos karvės odos pirštines su pamušalu suvirintojams. Dydis 10. Kiekviena pora pažymėta gamintojo logotipu, numeru, pagaminimo data ir piktogramoms. Pirštinės atitinka apsauga pagal EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 12477+A1:2005, AAF sąmens apsaugos priemonė II kategorijos.

Naudojimas: Pirštinės sukurtos suvirinimo darbams ir apsaugai nuo minimalių mechaninių pažeidimų darbu sausoje aplinkoje.

Savybės ir žymėjimas:






				
Informacijos piktograma	Gamintojo identifikacija	Atitiktis ženklinis	Mechaninės rizikos piktograma	Apsparumo karščiui piktograma
4244x – Apsaugos laipsnis EN388:2016				
Atsparumas nudrėskimui: 4 (1-4)				
Atsparumas įpjovimui: 2 (1-5)				
Atsparumas pjūvimui: 4 (1-4)				
Atsparumas driūmui: 4 (1-4)				
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvo išbandytas, metodas neatrodo tinkamas pirštinių konstrukcijai				
mikūmas	1			
41334x – Apsaugos laipsnis EN407:04				
Dirbamumas	klase 4 (1-4)			
Kontaktai su šiluma	klase 1 (1-4)			
Srautinio karščiu	klase 3 (1-4)			
Šilumos spinduliavim	klase 3 (1-4)			
Mazli išlydyžiusių metalo dalelių	klase 4 (1-4)			
Dideliu išlydyžiusių metalo dalelių	klase X (1-4)			

EN12477+A1:05 TYP A - standartinis numeris, išleidimo metal ir suvirinimo tipai
Apsauginių pirštinių naudojimas ir priežiūra : Saugokite pirštines nuo saulės karšties. Netinkamas naudojimo darbe su organiaais šiekidvilais ir jų garais, tepalais, rebitais, mineraliais ašiais/arba vandeniū. Po kiekvieno darbo, stambesnius nešvarus nuo pirštinių nuvalykite skudurėliu, atšiuvinkite laisvai padėtas kambario temperatūroje. Pirštinū negalima skalbti arba valyti cheminiu būdu.

Dėmesio : Pirštines netinkamas darbu prie judrių mechanizmų kur yra užsikabinimo ar įsukimo rizika. Pirštines apsaug tik vidinė plastikas puos. Pasirinkite reikiamą pirštinių dydį ir prieš kiekvieną darbą įsitikinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekadą nenaudokite įplyšusių, sukietėjusių ar kitaip pažeistų pirštinių. Jautriešis asmeninis nuo pirštinių gali atsirasti alergines odos reakcijas. Tokie aviešis šių pirštinių nebevoleikite. Šiuo metu nėra standartizuoto bandymų metodo, kuris nustatytų por pirštines prisiskverbiančiu UV medžiagas. Nepaisant to, gaminant apsaugines suvirinimo pirštines, naudojamos medžiagos, neleidžiančios UV skverbtis. Taip pat, suvirinimo nuostatais netinkama suvirintoji apsauga tiesioginio kontakto su visais žemios įtampos atvėtais, pirštines neapsaugo nuo elektros šoko, kurį sukeltia sugedusių įranga ar dirbanti su elektros jampa. Jei pirštines šlapias, purvinos arba įmirkusios prakaitu, elektrinė varža sumažėja ir rizika gali padidėti.

Transportavimas ir sandėliavimas: Pirštines turi būti transportuojamos originaliame pakuotėje arba plastikiniame maiše. Saugokime gamintojo arba kitoje plastikiniame pakuotėje, sausoje ir vėsioje aplinkoje, toliau nuo saulės spindulių. Galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos tinkamos sąlygoje. Serifikatas išduotas notifikuotie įstaigoje Nr. 2369 VIPO a.s., Gen.Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakijos respublikoje. Atitikties deklaracija pasieklita svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos respublika.

				
Les bruks-anvisningen av produsent	Identifikasjon	CE-samsvartv-markėjimas	Mekanisk risko-ikona	Varme ir lid-ikona
4244x – beskyttelsesnivå EN388:2016				
Siltestyrke:	4 (1-4)			
Gjennomsnittskjæring:	2 (1-5)			
Islyskfølsomhet:	4 (1-4)			
Slitfølsomhet:	4 (1-4)			
TDM kuttmotstand:	x - Ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga.hanskens konstruksjon			
Smidghet	1			

41334x – beskyttelsesnivåer EN 407:04
Antennesenslere klasse 4 (1-4)
Kontaktvarme klasse 1 (1-4)
Isoleringssevne klasse 3 (1-4)
Strålevarme klasse 3 (1-4)
Metallsprut, små klasse 4 (1-4)
Metallsprut, store klasse X (1-4)






EN12477+A1:05 TYPE A - standartnummer, produktionsår og sveisehansketype
Instruktioner for vedligehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanskene mod strålevarme, udtøst ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -damper, smøremidler, fett, mineraliske olier eller vann. Etter bruk bør grovere tilsmussing fjernes med en fin børste. Hanskene bør oppbevares løst utstrakt ved romtemperatur. Hanskene er ikke egnet til væsker eller kjemisk rensning.

Advarsler: Hanskene bør ikke bruktes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskindeler. De beskyttende egenskaperne relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjennomsiktige, harde, eller på annen måte skadede hansker. For bruk som er spesielt utformet, kan det forekomme hudirritasjon – hvis dette oppstår må hansken ikke brukes. For tiden finnes ingen standardisert testmetode for måling av UV-geomtregning gjennom materialet som benyttes i hansken. Imidlertid tillater de gjeldende metoder for produksjon av sveisehansker normalt ikke geomtregning av UV! Ved utførelse av lysbueveisinger er sveiseren ikke beskyttet hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lampendelene. Hansken gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av defekt utstyr eller arbeide med elektrisk spenning. Hvis hanskene er våte, tilsmussede eller fuktige av svette vil den elektriske motstandsdyktigheten være redusert og risikoen kan være økt.

Transport og lagring: Hanskene bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastposer. Oppbevareres best i kjølig, tørre og ventilerte omgivelser. Unngå lagring i direkte sollys. Hanskens estimerne holdbarhet er ca. 5 år fra produksjonsdatoen, hvis de har vært oppbevart under egnede forhold.

EU - type sertifikat er utstedt av det registrerte organ Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Samsvarserklæring er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

				
Izlaesit lietošanas instrukciju	ratūzāja identifikacija	EU atitiktibas markējums	mekhaniskā riska piktogramma	karstuma riska piktogramma

4244x – aizsardzības līmeņi **EN388:2016**
Noduluma izturība: 4 (1-4)
Izturība pret iegriezumiem: 2 (1-5)
Izturība pret pīsumiem: 4 (1-4)
Izturība pret caurduršanu: 4 (1-4)
TDM samazināt pretestību: x - nav testēts, metode nešķiit piemērota, ņemot vērā cimdus konstrukciju

41334x – aizsardzības līmeņi EN407:04
Atrašanās lēnsības Klase 4 (1-4)
Aizsardzība pret liešu karstumu Klase 1 (1-4)
Aizsardzība pret vispārēju karstumu Klase 3 (1-4)
Aizsardzība pret sturu karstumu Klase 3 (1-4)
Aizsardzība pret sūkām, kausētām metāla daļiņām Klase 4 (1-4)
Aizsardzība pret lielām kausētām metāla daļiņām Klase X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPS A - standarts, ieviešanas gads un metinātāju cimdņu tips.
Lietošanas instrukcija: Nepakļauj cimdus tiešai karstumā, organisko šķīdinātāju, toļū, tauku, smērvielū, tauku, minerālvielū un ūdens ietekmei. Lieklākos netirums notāgīt ar birstiņu un ļaut cimdņiem iztūst istabas temperatūrā. Cimdus nedrīkst matot ar tīrti ķīmiskū.

Prezervēšana: Neizmantojam cimdus gadījumā, ja pastāv mijiedarbības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Norādītas aizsardzības līmeņis attiecas tikai uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantojiet pareizo izmēru un pirmis katras lietošanas pārbaudiet cimdū sākotni. Nekad neizmantojiet caurus, sacietējušus vai citādi bojātus cimdus. Alerģiskim cilvēkiem iespējams ādas kairinājums – šādā gadījumā turpmāk cimdus neizmantojiet. Pašaiķiet izmantojam standartizētas testa metodes, lai noteiktu izmantojamo cimdū materiālu UV sturu caurlaidību. Tomēr pašreizējās metinātāju aizsargcimdū ražošanas metodes parasti nepieļauj UV sturu caurlaidību. Kā arī loka metināšanas specifika nepieļauj metinātāju aizsardzību gadījumā, ņonākt tiešā saskārē ar visām zemsprieguma daļiņām, cimdū nenodrošina aizsardzību pret elektrisko šoku, ko izraisaīušas bojīlās iekārtas vai strādotāj zemsprieguma. Ja cimdī ir mitri, netīri vai citādi elektriskā pretestība samazinās un risks var palielināties.





Transportēšana un uzglabāšana: Cimdū jātransportē oriģinālā iepakojumā vai plastīkā maisā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai. Derīguma termiņš, pie nosacājuma, ka cimdū tie uzglabāti piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

EU tīpa serifikātu izsniegusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Atitlistības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL LASHANDSCHOENEN, TYPE A

Beschrijving: Lashandschoen, vijf vingers, gemaakt van rundspliet met katoenen binnenvoering. Verkrijgbaar in maat 10 volgens (EM) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 en EN12477+A1:2005.
PUB persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.
Gebruik: Handschoenen zijn geschikt voor lassen en bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden.
Eigenschappen en markingering:

			
Informatie piktogram	Leverancier	Europese CE-keuring	Piktogram voor mechanische risico's - hitte
4244x – beschermingsniveau EN388:2016			
Slijtveerstand:	4 (1-4)		
Slijtveerstand:	2 (1-5)		
Scherfsteurkste:	4 (1-4)		
Perforatieveerstand:	4 (1-4)		
TDM snijwervelstand:	x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen		
Precisie	1		

41334x – beschermingsniveau EN407:04				
Ontvlambaarheid:	klasse 4 (1-4)			
Contacthitte:	klasse 1 (1-4)			
Geleidingshitte:	klasse 3 (1-4)			
Stralingshitte:	klasse 3 (1-4)			
Kleine spatten gesmolten metaal:	klasse 4 (1-4)			
Grote hoeveelheden gesmolten metaal:	klasse X (1-4)			

190815 01200609 PUGNAX BLUE UI w07 A3 double

EN12477+A1:05 TYPE A - normering + geschikt voor lassen

Reinigen en onderhouden: Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, mineralen oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstopping met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste mate. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen getestandaariseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen. Echter, de huidige methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij vlambooglassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische spanning. Natte, bevulde of door zweet doordrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koel, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien zijt opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergevissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

EU type certificaat uitgereikt door erkende keuringsinstantie No. 2369 VIPO a.s., Gen.Svobodu 1069/4, Partizánské, Slovak Republic. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.






Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechiě

NO SVEISEHANSKER, TYPE A

Beskrivelse: Femfingerete beskyttelseshansker til sveisers, laget av oksespalt. Hanskene er helforêt. Størrelse 10. Hvert par er merket med produsentens logo, artikkelnummer, produktionsdato samt piktogrammer for standardene (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 og EN 12477+A1:2005. PVU personlig verneutstyr kategori II.

Bruk: Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser.

Funksjoner og merking:

				
Les bruks-anvisningen av produsent	Identifikasjon	CE-samsvartv-markėjimas	Mekanisk risiko-ikona	Varme og lid-ikona
4244x – beskyttelsesnivå EN388:2016				
Siltestyrke:	4 (1-4)			
Gjennomsnittskjæring:	2 (1-5)			
Islyskfølsomhet:	4 (1-4)			
Slitfølsomhet:	4 (1-4)			
TDM kuttmotstand:	x - Ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga.hanskens konstruksjon			
Smidghet	1			

41334x – beskyttelsesnivåer EN 407:04

Antennesenslere klasse 4 (1-4)
Kontaktvarme klasse 1 (1-4)
Isoleringssevne klasse 3 (1-4)
Strålevarme klasse 3 (1-4)
Metallsprut, små klasse 4 (1-4)
Metallsprut, store klasse X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE A - standartnummer, produktionsår og sveisehansketype
Instruktioner for vedligehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanskene mod strålevarme, udtøst ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -damper, smøremidler, fett, mineraliske olier eller vann. Etter bruk bør grovere tilsmussing fjernes med en fin børste. Hanskene bør oppbevares løst utstrakt ved romtemperatur. Hanskene er ikke egnet til væsker eller kjemisk rensning.

Advarsler: Hanskene bør ikke bruktes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskindeler. De beskyttende egenskaperne relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjennomsittige, harde, eller på annen måte skadede hansker. For bruk som er spesielt utformet, kan det forekomme hudirritasjon – hvis dette oppstår må hansken ikke brukes. For tiden finnes ingen standardisert testmetode for måling av UV-geomtregning gjennom materialet som benyttes i hansken. Imidlertid tillater de gjeldende metoder for produksjon av sveisehansker normalt ikke geomtregning av UV! Ved utførelse av lysbueveisinger er sveiseren ikke beskyttet hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lampendelene. Hansken gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av defekt utstyr eller arbeide med elektrisk spenning. Hvis hanskene er våte, tilsmussede eller fuktige av svette vil den elektriske motstandsdyktigheten være redusert og risikoen kan være økt.

Transport og lagring: Hanskene bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastposer. Oppbevareres best i kjølig, tørre og ventilerte omgivelser. Unngå lagring i direkte sollys. Hanskens estimerne holdbarhet er ca. 5 år fra produksjonsdatoen, hvis de har vært oppbevart under egnede forhold.

EU - type sertifikat er utstedt av det registrerte organ Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Samsvarserklæring er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.






Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL RĘKAWICE DLA SPAWACZY, TYP A

Opis: Rękawice wyprodukowane z dobrej jakości, miękkiej, dwoinowej skóry bydlęcej. Posiadają podszewkę. Dostarczane w rozmiarze 10. Poszczególne pary posiadają oznaczenie logo dostawcy, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przyznaczenia z punktu widzenia rodzaju ochrony zgodnie z normami (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 oraz EN 12477+A1:2005. SOI Środtek Ochrony Indywidualnej, kategorii II.

Wykazanie i przeznaczenie: Rękawice są przeznaczane do ochrony ręk przcew uezoraz mechanicznū i do wykonywania w typowych pracach w spawalnictwie w suchym środowisku.

Właściwości i przeznaczenie:

				
Informacje piktogram	identyfikacja producenta	oznaczenie zgodności	piktogram ryzyko mechaniczne	piktogram temperatura i ogień
4244x – Stopnie ochrony EN388:2016				
Stopień ochrony przeciw szciorani:	4 (1-4)			
Stopień ochrony przeciw przecięciu:	2 (1-5)			
Stopień ochrony przeciw rozdzieraniu:	4 (1-4)			
Stopień ochrony przeciw przekłuciu:	4 (1-4)			
Rezystancja ciepca TDM:	x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy			

41334x – Nivelul de protecție **EN407:04**

Zachowanie się podczas palenia Klase 4 (1-4)
Opornosc na ciepło kontaktywne Klase 1 (1-4)
Opornosc na ciepło konwektywne Klase 3 (1-4)
Opornosc na ciepło promieniowania Klase 3 (1-4)
Opornosc na drobne rozpryski metalu Klase 4 (1-4)
Opornosc na duze rozpryski metalu Klase X (1-4)

EN12477+A1:2005 TYP A - Numer normy, rok wydania i typ rękawicy dla spawacza
Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do pracy z rozpryskami mechanicznymi, organycznymi i ich parami, smarami, tłuszczami, olejami mineralnymi i wodą. Po pracy duże cząstki zanieczyszczeń należy usunąć za pomocą szczotki, a rękawice należy pozostawić w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyszczyć chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchywienia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie przeciw chwytny rękawicy. Zawse należy używać rękawic w odpowiednim rozmiarze, a przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podanych, przetartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku zaprzestaj używania tych rękawic. Aktualnie nie mamy de dyspozycji żadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzających przenikanie promieniowania UV przez materiał rękawic, ale używane obecnie metody produkcji i konstrukcji rękawic ochronnych dla spawaczy przeważnie chronią przed promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocą luku elektrycznego rękawice te nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powstającym na skutek wadliwych urządzeń lub przy pracy pod napięciem. Jeśli rękawice są mokre,

brudne lub nasiąknięte potem, opór elektryczny się zmniejsza, a ryzyko porażenia prądem może się zwiększyć.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2369 VIPO a.s., Gen.Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika Slowacka. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.






Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka
Importér w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO, TYP A

Descrição: As luvas são produzidas de couro macio de qualidade e dividido. Com logo cheio. São fornecidas no tamanho 10. Pares individuais são marcadas com o logo do fornecedor, número de tipo, ano de produção e piktogramas de proteção de acordo com (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 e EN12477+A1:2005. EPI equipamentos individuais de proteção categoria II.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e para trabalhos de soldador comuns no ambiente seco.

Características e marcação:

				
Piktograma informações	identificação do fabricante de conformidade	marca	piktograma riscos mecânicos	piktograma calor e fogo
4244x – Níveis de proteção EN388:2016				
Nível de proteção contra abrasão:	4 (1-4)			
Nível de proteção contra corte com faca:	2 (1-5)			
Nível de proteção contra rasgamento:	4 (1-4)			
Nível de proteção contra perfuração:	4 (1-4)			
Resistência ao corte TDM:	x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva			
Capacidade de agarramento	classse 1			